



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

بیبنک چارجرز کا شیڈول

برائے عرصہ
جولائی ۲۰۲۵ء تا دسمبر ۲۰۲۵ء



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

تجارتی مالیات

I- درآمدات

۱- لیٹرز آف کریڈٹ کا اجرا اور دوبارہ توثیق بشمول فراہم کنندہ کی قیمت/فراہم کنندہ کا قرض

پہلی سہ ماہی یا اُس کا کچھ حصہ: 0.40% تک

بعد کی سہ ماہی یا اُس کا کچھ حصہ: 0.25% تک

کم از کم چارجز: 1,500/- روپے

۲- ناقابل واپسی لیٹرز آف کریڈٹ: درج بالا 1 کے جیسا، مع 0.60% سادہ

۳- اے سی یو (ACU) رکن ممالک کیلئے کھولے گئے LCS: جیسا درج بالا 1 میں ہے

۴- ترمیمات: رقم بڑھانے یا میعاد کی توسیع کیلئے جیسا درج بالا 1 میں ہے تمام ترمیمات کیلئے فی ترمیم 1,000 روپے

۵- Usance/Deferred سیمینٹ LCS کے تحت قبولیت: 1,000/- روپے فی بل/ڈاکومنٹس، مع 0.10% کمیشن فی ماہ تک یا ایل سی کی میعاد سے چھٹی تک کا کچھ حصہ یا بل کے اختتام (ریٹائرمنٹ) تک جو بھی پہلے ہو۔

۶- ریٹائرمنٹ چارجز: (LC اور کنٹریکٹ) ڈاکومنٹ کی رقم کے 0.10% تک; کم از کم 1,000/- روپے مع ادائیگی چارجز (ری ایمرسنگ بینک کو قابل ادا) اصل کے ساتھ مع سوفٹ چارجز نہیں ہیں بشرطیکہ ایل سی 100% کمیشن مارجن کے بدلے ہے۔

۷- پیشکش یا قبولیت سے پہلے ہی سائٹ LCS کے تحت امپورٹ بلز پر مراجمہ/مساومہ کی قیمت لگائے جانے کو طے کر لیا جائے گا

۸- امپورٹ کنٹریکٹ کی رجسٹریشن: 0.125% تک (کم از کم 1,250/- روپے)

۹- رجسٹرڈ امپورٹ کنٹریکٹ میں ترمیم: 1,200/- روپے (سادہ) اگر رقم میں اضافہ درج بالا 9 کے مطابق ہے۔

۱۰- درآمدات (امپورٹس) کے بدلے پیشگی ادائیگی: 0.10% یا کم از کم 2,000/- روپے سادہ (ریٹائرمنٹس چارجز کے علاوہ)

۱۱- کلیمیشن (ادائیگی) کیلئے ان ورڈ ڈاکومنٹری بل: 0.125% (کم از کم 1,250/- روپے)

۱۲- کلیمیشن (قبولیت) کیلئے ان ورڈ ڈاکومنٹری بل: 0.125% (کم از کم 1,250/- روپے)

۱۳- کلیمیشن (ریٹائرڈ آن پیڈ) کیلئے ان ورڈ ڈاکومنٹری بلز: 100/- امریکی ڈالر (یا فارورڈنگ بینک سے مساوی غیر ملکی کرنسی) مع سوفٹ چارجز

۱۴- درآمد LC کے بدلے پیمینٹ/کنٹریکٹ جہاں ڈاکومنٹس درآمد کار (ترسیلات چارجز) کی جانب سے براہ راست حاصل کیے جاتے ہیں: 1,500/- روپے مع 0.20% سروس چارجز

۱۵- ڈاکومنٹس کے حصول سے قبل انیروے بل (AWB) کی انڈورسمنٹ: 1,650/- روپے AWB

۱۶- شپنگ گارنٹی کا اجراء: 1,650/- روپے فی شپنگ گارنٹی مع 110% کمیشن مارجن (برائے سائٹ ایل سی)

۱۷- ترسیلات سرٹیفکیٹ کا اجراء جہاں دوسرے بینک کے LCS کی ادائیگی ہمارے ذریعے کی جاتی ہے: 500/- روپے فی سرٹیفکیٹ

۱۸- درآمد LC کے تحت ڈسکریٹ پیڈ ڈاکومنٹس کی پیڈمنٹ: 90/- امریکی ڈالر فی بل

۱۹- LC اور کنٹریکٹ منسوخی چارجز: 1,500/- روپے سادہ فی منسوخی میں اصل کرو سپونڈنٹ بینک چارجز کے ساتھ سوفٹ چارجز

۲۰- بینک کی جانب سے منظور یا عائد کردہ کلیئرٹس ٹرمز آف لمٹ کے تحت کنٹائنمنٹ کی کلیئرٹس: کنٹائنمنٹ کی سی اینڈ ایف ویلیو پر کمیشن 0.25% کم از کم 1,000/- روپے فی کنٹائنمنٹ

۲۱- بینک ان لینڈ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت ڈاکومنٹس (دستاویزات کی مد میں ادائیگی) کی لاجسٹ: لاجسٹ کی تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 0.20% کے حساب سے کم از کم 500/- روپے مع منافع 60 پیسہ کے حساب سے فی 1,000/- روپے روزانہ

۲۲- ایکسیج کے بجائے پیڈمنٹ چارجز جہاں امپورٹر کسی دوسرے بینک سے LC اپنیڈ/کنٹریکٹ رجسٹر کرنے کیلئے غیر ملکی زرمبادلہ خریدتا ہے: 0.30% کم از کم 1,250/- روپے

II- برآمدات

۱- لیٹرز آف کریڈٹ:

(ا) مشاورت: 1,800/- روپے فی LC

(ب) ترمیم کا مشورہ: 1,200/- روپے فی ترمیم



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

ہر معاملے کی الگ الگ بنیاد پر ملک اور بینک رسک پر انحصار، کم از کم 150 امریکی ڈالر فی سہ ماہی، برآمد کار کی جانب سے قابل ادایا جس پر اس کا اطلاق ہو کی جانب سے قابل ادا

(ت) ایل سی کی منتقلی:	-/1,500 روپے مع سوئفٹ چارجز
ٹ (LC کے تحت Rupee بلز کے مذاکرات	0.25% کم از کم -/500 روپے
۲- ووسٹر واکاؤٹس سے دوسرے بینکس کو اخراجات کی ادائیگی	-/1,000 روپے فی ٹرانزیکشن
۳- دوسرے بینکس پر پابند LCs کے تحت ڈاکومنٹس کی کارروائی:	-/1,000 روپے فی ڈاکومنٹ
۴- ڈیوٹی ڈرائیگ کلیمز کی بینڈنگ:	0.25% کم از کم -/1,000 روپے فی کلیم
۵- ڈاکومنٹری کلکیشن:	-/1,000 روپے فی کلکیشن
۶- ایکسپورٹ ڈاکومنٹس پر سروس چارجز:	ریٹلا نریشن پر 0.15% تک (کم از کم -/2,000 روپے)
۷- ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج بینڈنگ چارجز:	-/80 روپے فی بل ریٹلا نرڈ
۸- ریزرو کے تحت طے پائی گئیں Unrealized دستاویزات:	کسٹمر سے مذاکرات کی تاریخ سے ریکوری تک -/0.57/1,000 روپے روزانہ
۹- ایڈوانس جیمینٹ پروسیڈنگ	0.15% کم از کم -/1,000 روپے
۱۰- ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کلیم پروسیڈنگ چارجز:	کلیم کی رقم کا 0.50% کم از کم -/1,000 روپے فی پروسیڈنگ
۱۱- دوسرے بینک کیلئے این او سی کا اجرا	-/1,000 روپے سادہ فی این او سی
۱۲- ای ای/ای ایف. ویریفیکیشن پروسیڈنگ فیس:	-/1,500 روپے فی معاملہ سادہ
۱۳- فرائٹ سبسڈی بینڈنگ چارجز	کم از کم -/1,000 روپے کے ساتھ 0.35% فی کلیم

III- لوکل ٹریڈ

۱- لیٹر آف کریڈٹ کے اجرا کے چارجز	0.40% تک
پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	0.25% تک
بعد کی سہ ماہی یا اس کے بعد کا کچھ حصہ	-/1,500 روپے
کم از کم چارجز	رقم بڑھانے یا معافی کی توسیع کیلئے جیسا درج بالا 1 میں ہے تمام تر میمات کیلئے فی ترمیم -/1,000 روپے
۲- ترمیمات	-/1,000 روپے فی بل/ڈاکومنٹس مع 0.15% کمیشن فی ماہ تک یا LC کی میعاد سے پہلے تک کا کچھ حصہ
۳- ایکسپنٹس کیشن:	یابیل کے اختتام (ریٹائرمنٹ) تک جو بھی پہلے ہو۔
۴- مراحمہ/مساومہ پرائنگ آن پیڈ سائٹ بلز (اشیا کی مد میں ادائیگی)	Re.0.41/1,000، روزانہ اگر بل مذاکرات کی تاریخ سے 10 دن کے اندر اندر ریٹائر
	Re.0.45/1,000، روزانہ اگر بل مذاکرات کی تاریخ سے 15 دن کے اندر اندر ریٹائر
	Re.0.57/1,000، روزانہ اگر بل مذاکرات کی تاریخ سے 15 دن کے بعد ریٹائر ہو جائے
۵- مذاکرات (نیو سیشن)/اختتام (ریٹائرمنٹ) چارجز:	بل ماؤنٹ کا 0.50%؛ فی ڈاکومنٹ کم از کم -/1,000 روپے
۶- ڈاکومنٹری کلکیشنز ان ورڈ:	0.50% فی ڈاکومنٹ، کم از کم -/1,000 روپے
۷- ڈاکومنٹری کلکیشنز آؤٹ ورڈ:	0.50% فی ڈاکومنٹ، کم از کم -/1,000 روپے

کیش سروسز

I- فارن ریمیٹنسز

۱- آؤٹ ورڈ ٹیلی گرافک ٹرانسفر اور ڈیمانڈ ڈرافٹس	-/10 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی
۱ آؤٹ ورڈ ایف ٹی چارجز ایم ٹی 103	OUR ہدایت کے ساتھ ٹرانزیکشنز کے لیے نمائندے کے چارجز طے شدہ معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے
ب آؤٹ ورڈ ایم ٹی 202 چارجز	نمائندے کے چارجز طے شدہ معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے
۲ ان ورڈ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ایم ٹی 103	ان ورڈ ایم ٹی 103 نمائندے کے چارجز طے شدہ معاہدے کے مطابق اصل لاگت پر لاگو ہوں گے
۱ ان ورڈ ایم ٹی 202 سی اووی چارجز	ان ورڈ ایم ٹی 202 سی اووی چارجز -/20 امریکی ڈالر فی ٹرانزیکشن

۲- تینج



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۴- فارن کرنسی اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئے فارن کرنسی نوٹس کے بدلے ریپیٹنس

۱) 0.5% اگر فنڈ فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کردہ کی تاریخ سے 90 دن کے اندر مقامی طور پر یا بیرون ملک ریپیٹ کیے گئے ہیں۔ (ایف سی کیش ودڈرائز پر چارجز کا اطلاق نہیں ہے)

ب) افغانستان کو برآمد کے نتیجے میں برآمد کار کو ملے ہوئے کیش امریکی کرنسی جمع کروانے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا

II- فارن کٹیکشن

۱- باہر جانے والا (آؤٹ ورڈ):	12.5/- امریکی ڈالر یا مساوی فی کٹیکشن
۲- اندر آنے والا (ان ورڈ):	12.5/- امریکی ڈالر یا مساوی مع DD/TT چارجز جیسا کہ اوپر 'A1' میں ہے فی انسٹرومنٹ
۳- آؤٹ ورڈ بلز ریٹرنڈ آن سیڈ:	750/- روپے
۴- پروسیدرینا نریشن سرٹیفیکیشن کا اجرا:	3 ماہ سے زائد پرانے ریپیٹنسز کیلئے - 500 روپے فی سرٹیفیکیشن، 2 سال سے زائد پرانے ریپیٹنسز کیلئے 1,000/- روپے فی سرٹیفیکیشن

III- فارن کرنسی انسٹرومنٹس کی خریداری (پروڈینشل ریگولیشنز کی طرف سے مجوزہ حدود کے مطابق)

۱- TCs کی بھنائی:	1.0% کم از کم - 15/- امریکی ڈالر
IV- فارن ایکسچینج پرنٹس اور 'ایم' فارم کی منظوری (تمام اقسام)	
۱- تازہ معاملہ	2,000/- روپے
۲- ہر اگلی تجدید کیلئے	1,500/- روپے
۳- 'ایم' فارم پروسیڈنگ	250/- روپے

V- لوکل ریپیٹنسز

۱- باہر جانے والے / آؤٹ ورڈ ٹیلی گرافک ٹرانسفر اور ڈیماٹڈ ڈرافٹس	
۱) 10,000/- روپے تک	0.25% کم از کم - 100 روپے
۲) 100,000/- روپے تک	0.20% کم از کم - 100 روپے
۳) 1,000,000/- روپے تک	0.10% کم از کم - 200 روپے
۴) 2,000,000/- روپے تک	0.075% کم از کم - 750 روپے
۵) 2,000,000/- روپے سے اوپر	0.060% کم از کم - 1,200 روپے
۲- پے آرڈرز کا اجرا	کوئی قیمت نہیں
۳- سی ڈی آر کا اجرا	کوئی قیمت نہیں
۴- روپی ٹریوچرکس کا اجرا	اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے مفت
۵- ڈپلیکیٹ آر ٹی سی کا اجرا	500/- روپے (بطور پروسیڈنگ فیس فی درخواست)
۶- متنسیخ	

۱) ڈیماٹڈ ڈرافٹ (اگر متنسیخ پر اصل واپس کر دیا گیا ہو)	375/- روپے
ڈیماٹڈ ڈرافٹ (چوری یا گم ہو جانے کی صورت میں) / ڈپلیکیٹ ڈرافٹ کا اجرا	500 روپے بھنائی نہ ہونے اور قواعد کی تکمیل کی تصدیق پر
۲) ٹیلی گرافک ٹرانسفر	ادا کردہ بینک سے ری - کریڈٹ کے حصول کی تصدیق پر - 500 روپے
۳) پے آرڈر اور سی ڈی آر (اگر متنسیخ پر اصل واپس کر دیا گیا ہو)	300/- روپے
پے آرڈر اور سی ڈی آر (چوری یا گم ہو جانے کی صورت میں) / ڈپلیکیٹ کا اجرا	300/- روپے
۴) گم شدہ آر ٹی سی کی جگہ ری - فنڈ	500/- روپے فی درخواست ری - فنڈ کیلئے

VI- مقامی یا لوکل کٹیکشن

۱- باہر جانے والا (آؤٹ ورڈ)	0.05% کم از کم - 150 روپے
-----------------------------	---------------------------



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۲- باہر جانے والا (آؤٹ ورڈ) ریٹرن چارجز	-/250 روپے
۳- اندر جانے والا (ان ورڈ):	-/250 روپے مع ڈی ڈی/ٹی ٹی/پی او چارجز
۴- بیرون شہر/انٹرنیٹ کیمرنگ	-/200 روپے فی چیک
۵- بیرون شہر/انٹرنیٹ ریٹرن چارجز	-/200 روپے فی چیک

۷۷- پیشگی/قرضہ جات

قانونی مشاورت (لیگل کونسل)

۱- اندرون خانہ قانونی اعانت (ان ہاؤس لیگل اسسٹنس)	-/2,500 روپے کم از کم فی ڈاکومنٹ/کیس
بیرون خانہ قانونی اعانت (آؤٹ سائڈ لیگل اسسٹنس)	اصل پر
۲- پروجیکٹ ایگزیکشن فیس	درخواست کردہ سہولیات کے 1% تک جہاں قابل اطلاق ہو
۳- آرٹیمٹ/سینڈیکیشن فیس	صارف کے ساتھ باہمی معاہدے کے مطابق
۴- ڈاکومنٹیشن چارجز	اصل؛ مع -/1,000 روپے تک، ڈاکومنٹس ویننگ چارجز
۵- سکیورٹی ٹینٹنس چارجز	جیسے اور جہاں لاگو ہوں
۶- فیسٹیٹیو ریو فیس	کم از کم -/5,000 روپے یا جیسا کلائنٹ کے ساتھ طے کیا گیا ہو
۷- فنانسنگ کی تشخیص/ضرورت تشخیص فیس	پہلے سے طے کردہ معاہدے کے مطابق بینک کسٹمر سے پروسیدنگ اور تشخیص کی مقررہ فیس چارج کر سکتا ہے۔ یہ فیس کسی مخصوص مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے یا مالیاتی رقم کی فیصد یا مشروط کے طور پر عائد نہیں کی جائے گی۔

۱) مرہونہ جات (Mortgages)

i) پراپرٹی تشخیص/تخمینہ چارجز	اصل
ii) تکافل/انشورنس	اصل
iii) ایڈسٹرٹیو چارجز	جیسا لاگو ہو
ب) مرہونہ اشیا (پلیجڈ اشاک)	
i) گودام کا کرایہ	اصل
ii) گودام عملے کی تنخواہیں	اصل
iii) گودام کا معائنہ	اصل پر
iv) ڈیلیوری سپروائزر چارجز	اصل پر
v) مقدمہ چارجز:	اصل
vi) ڈیلیوری آرڈر کا اجرا	-/250 روپے فی ڈیلیوری آرڈر
vii) تکافل/انشورنس پریمیم	اصل
viii) تجارتی اشیا کا طبعی معائنہ	اصل
پ) مرہون ضمانتیں	
i) اشیا کے معائنے کے چارجز	اصل پر
ii) تکافل/انشورنس پریمیم:	اصل پر
ت) ضمانتیں اور محفوظ قبضہ کی خدمات (اسلاک)	
i) اکاؤنٹ اوپننگ اینڈ مینٹنس چارجز:	-/1,500 روپے افراد کیلئے، -/2,000 روپے دیگر صارفین کیلئے سالانہ چارجز، براہ راست قابل ادا۔
ii) محفوظ قبضہ - شیئرز/سکیورٹیز پر	0.10% سادہ، براہ راست قابل ادا، سہ ماہی کے آغاز پر شیئرز/سکیورٹیز کی مارکیٹ ویلیو پر ہر تین ماہ میں (جیسا معاملہ ہو)
iii) ہینڈلنگ - شیئرز/سکیورٹیز کی فروخت/خرید	شیئرز/سکیورٹیز کی مارکیٹ ویلیو یا لاگت (جیسا معاملہ ہو) پر 0.10% سادہ
iv) ہینڈلنگ - ڈپازٹ/وڈرال شیئرز/سکیورٹیز*	ڈپازٹ/وڈرال کی تاریخ پر مارکیٹ ویلیو یا لاگت (جیسا معاملہ ہو) پر 0.10% سادہ
v) محفوظ قبضے میں موجود شیئرز پر پروفٹ/ریٹرن/ڈیویڈنڈ کی وصولیابی*	جمع شدہ پروفٹ/ریٹرن/ڈیویڈنڈ کی رقم پر 0.10% سادہ



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

اصل

(vi) ٹیکافل/انشورنس، اسٹامپ ڈیوٹی، ٹیکسز، بروکریجز، ٹرانسفر فیس،

سی ڈی سی چارجز، رجسٹریشن فیس، پوسٹنگ اور کوریئر چارجز

* یہ سروسز چارجز ہمارے شیئرز/سکیورٹیز کے بدلے قرضہ جات پر لاگو نہیں ہوتے۔

اصل

(vii) سرچرپورٹس

-3,000/- روپے

(viii) ایس بی پی کے ساتھ قرضے کی رجسٹریشن:

-VIII ضمانتیں

۱۔ بینک گارنٹی (سلیبز)

چارجز فی سرمایہ		رقم کا دائرہ	
بعد کی سرمایہ یا اس کا کچھ حصہ	پہلی سرمایہ یا اس کا کچھ حصہ		تک رقم
1,750	2,000	500,000	500,001
2,800	3,200	800,000	800,001
3,500	4,000	1,000,000	1,000,001
5,250	6,000	1,500,000	1,500,001
7,000	8,000	2,000,000	2,000,001
8,750	10,000	2,500,000	2,500,001
10,500	12,000	3,000,000	3,000,001
12,250	14,000	3,500,000	3,500,001
14,000	16,000	4,000,000	4,000,001
15,750	18,000	4,500,000	4,500,001
17,500	20,000	5,000,000	5,000,001
19,250	22,000	5,500,000	5,500,001
21,000	24,000	6,000,000	6,000,001
22,750	26,000	6,500,000	6,500,001
24,500	28,000	7,000,000	7,000,001
26,250	30,000	7,500,000	7,500,001
28,000	32,000	8,000,000	8,000,001
31,500	36,000	9,000,000	9,000,001
33,250	38,000	9,500,000	9,500,001
35,000	40,000	10,000,000	10,000,001
43,750	50,000	12,500,000	12,500,001
52,500	60,000	15,000,000	15,000,001
61,250	70,000	17,500,000	17,500,001
70,000	80,000	20,000,000	20,000,001
78,750	90,000	22,500,000	22,500,001
87,500	100,000	25,000,000	25,000,001
96,250	110,000	27,500,000	27,500,001
105,000	120,000	30,000,000	30,000,001
113,750	130,000	32,500,000	32,500,001



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

122,500	140,000	35,000,000	32,500,001
131,250	150,000	37,500,000	35,000,001
140,000	160,000	40,000,000	37,500,001
148,750	170,000	42,500,000	40,000,001
157,500	180,000	45,000,000	42,500,001
166,250	190,000	47,500,000	45,000,001
175,000	200,000	50,000,000	47,500,001
183,750	210,000	52,500,000	50,000,001
192,500	220,000	55,000,000	52,500,001

نوٹ:

مجازا تھارٹی سے منظوری کے ساتھ درج بالا چارجز کی کاروباری غور و خوض / وعدوں کے لحاظ سے ترمیم کی جاسکتی ہے۔ بینک مکرمہ لمیٹڈ کے ریڈیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبرز نے بینک کو لیٹر آف گارنٹی کے اجرا کے وقت پیش کی جانے والی خدمات جیسا کہ ڈاکومنٹیشن، کریڈٹ اسسمنٹ، کروسیوٹنٹس، اکاؤنٹ مینٹیننس، مانیٹرنگ، بینڈ لنگ آف ڈاکومنٹس وغیرہ کے عوض فیس چارجز کرنے کی اجازت دی ہے۔ 100 ملین روپے سے تجاوز کرنے والی تمام ضمانتوں پر ماہانہ -8,000 روپے ہر فی ملین (فی سہ ماہی یا کچھ حصہ) +4,000 روپے (بعد کی ہر سہ ماہی پر) سروس چارجز عائد ہوں گے۔

۲- ترمیمات

-1,000 روپے فی ترمیم رقم میں اضافے یا میعاد کی توسیع کو درج بالا 1 کے مطابق چارج کیا جائے گا

-1,000 روپے فی معاملہ

۳- ایس بی بی سے ضمانتوں کی منظوری

IX- کنزیومر بینکنگ

(i) بینک مکرمہ آٹو اجارہ:

-7,500 روپے (نئی/استعمال شدہ گاڑی) فی معاملہ براہ راست (نا قابل واپسی)

(i) پروسیڈنگ فیس

اصل کے مطابق

(ii) وہیکل رجسٹریشن چارجز

-1,200 روپے فی تاخیر واجب الادا قسط

(iii) تاخیری کرایہ ادائیگی پر صدقہ

01-سال کے اندر بقایا اصل رقم کا 5%

(iv) جلد تصفیہ پر قیمت خرید

01-سال کے بعد بقایا اصل رقم کا 3%

-50,000 روپے یا اصل (جو زیادہ ہو) + ٹیکس

(v) دوبارہ قبضہ چارجز

-1,000 روپے فی واپسی

(vi) چیک واپسی چارجز

اصل کے مطابق

(vii) وہیکل ہکافل/ٹریک

اصل کے مطابق

(viii) وہیکل تشخیص/تعمین چارجز (استعمال شدہ گاڑیاں)

اصل کے مطابق

(ix) لیگل نوٹس فیس

اصل لاگت پر

(x) نادہندہ کلائنٹس سے واپس لی گئی گاڑیوں کی فروخت کیلئے اشتہار

بینک کے پاس لاگو عرصے کے دوران کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ مدت کیلئے کرائے/اصل کی وقفے وقفے سے از سر نو غور کرنے کے حقوق محفوظ ہیں

(ب) بینک مکرمہ ہاؤسنگ فنانس (ڈیمونشٹریٹو)

0.05% یا -8,000 روپے (جو زیادہ ہو) نا قابل واپسی

(i) پروسیڈنگ فیس

اصل کے مطابق

(ii) آمدن کے تخمینے کے چارجز

اصل کے مطابق

(iii) جائیداد کی جانچ کے چارجز

-1,000 روپے

(iv) تاخیری ادائیگی پر صدقہ

-500 روپے فی واپسی چیک

(v) چیک واپسی چارجز

ایک سال کے اندر بقایا اصل کا 5% اضافی قیمت اگر صارف اپنے ذریعے سے ادا کرتا ہے تو 1 سال بعد کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ اے ٹی ایف کی صورت میں اصل رقم کا 10% عائد کیا جائے گا

(vi) جلد تصفیہ چارجز



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

(vii) لیگل فیس	اندرون خانہ قانونی اعانت
-/2,500 روپے کم از کم فی ڈاکومنٹ/کیس	بیرون خانہ قانونی اعانت
اصل پر	(viii) زندگی اور جائیداد کا تکافل/انشورنس
اصل کے مطابق	پ (کنزیومرفنانس-ہوم اپلاٹمنز)
قرض کی رقم کا 1% یا -/2,000 روپے (جو بھی زیادہ ہو) ناقابل واپسی	(i) پروسیسنگ فیس
اصل کے مطابق (جہاں لاگو ہو)	(ii) آمدن کے تخمینے کے چارجز
اصل کے مطابق (جہاں لاگو ہو)	(iii) لائف تکافل/انشورنس
-/1,500 روپے فی تاخیر واجب الادا قسط	(iv) تاخیری ادائیگی پر صدقہ
-/500 روپے فی چیک واپسی	(v) چیک واپسی چارجز
1 سال کے اندر بقایا اصل رقم کا 5%	(vi) جلد تصفیہ چارجز
1 سال کے بعد بقایا اصل رقم کا 3%	

(vii) لیگل فیس	اندرون خانہ قانونی اعانت
-/2,500 روپے کم از کم فی ڈاکومنٹ/کیس	بیرون خانہ قانونی اعانت
اصل پر	(ت) پرسنل فنانس-معاون
قرض کی رقم کا 1% یا -/2,000 روپے (جو بھی زیادہ ہو)	پروسیسنگ فیس

-X کارپوریٹ/ایس ایم ای اجارہ	
(i) پروسیسنگ فیس	1% فی معاملہ براہ راست یا صارف سے صارف کی بنیاد پر قابل مذاکرات
(ii) ڈاکومنٹ چارجز	اصل
(iii) دوبارہ قبضہ چارجز	اصل پر جیسا کہ ری پزیشن ایجنٹس نے مشورہ دیا ہو
(iv) قانونی اخراجات	بینک کی جانب سے برداشت کیے گئے اصل پر
(v) غیر ادا شدہ چیکس کی واپسی	-/1,000 روپے
(vi) نادہندہ کلائنٹس سے واپس قبضے میں لی گئی اشیاء کی فروخت کیلئے اشتہار	اصل لاگت پر

-XI متفرق چارجز	
-۱ مکرمہ کلاسک اکاؤنٹ	

تکافل پلان کی قسم	ماہانہ اوسط ڈپازٹ متوقع کوریج تکافل چارجز	تکافل چارجز	تکافل چارجز سالانہ
پلان A	-/250,000 روپے فی فرد (اصل کے مطابق)	-/250,000 روپے تک	-/2,200 روپے یا (اصل کے مطابق)
پلان B	-/100,000 روپے فی فرد (اصل کے مطابق)	-/100,000 روپے تک	-/1,650 روپے یا (اصل کے مطابق)
پلان C	-/50,000 روپے فی فرد (اصل کے مطابق)	-/50,000 روپے تک	-/1,100 روپے یا (اصل کے مطابق)

-۲ مکرمہ سینئر سٹیزن اکاؤنٹ	
درکار بیننس	کوئی کم سے کم بیننس لاگو نہیں
چیک بک اجرا کے چارجز	-/20 روپے فی ورق مع گورنمنٹ کو واجب الادا محصولات، اگر ہوں



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۳۔ آسان اکاؤنٹ	چیک بک اجراء کے چارجز	20/- روپے فی ورق مع گورنمنٹ کو واجب الادا محصولات، اگر ہوں
۴۔ انویسٹر پورٹفولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS) شریعہ سے ہم آہنگ ضمانتیں	ضمانت کی نقل و حرکت (دوسرے بینک کو)	500/- روپے فی ٹرانزیکشن سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
	ضمانت (خرید/ فروخت)	500/- روپے فی ٹرانزیکشن سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
	اکاؤنٹ مینٹیننس	200/- روپے فی ٹرانزیکشن سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
	کلکیشن کوپن SPB سے (اسلامک انسٹرومنٹس)	
۵۔ فنڈ ٹرانسفر/ فنڈز آؤٹ فلو (3rd پارٹی) RTGS استعمال کرتے ہوئے		
		** فی لین دین پرائس بی پی کو قابل ادا چارجز ** فی لین دین پرائس ایم بی ایل کا شیئر آف چارجز ** فی لین دین پرنٹل چارجز
i) ایم ٹی 103 سہولت (بذریعہ آر ٹی جی ایس کم سے کم رقم -/1,000,000 روپے یا زیادہ ہے)	لین دین کے اوقات *	
	صبح 9:00 تا دوپہر 1:00	200/- روپے
	دوپہر 1:00 تا سہ پہر 3:00	20/- روپے
	سہ پہر 3:00 تا سہ پہر 4:00	220/- روپے **
ii) ایم ٹی 102 سہولت (بذریعہ آر ٹی جی ایس کم سے کم رقم -/100,000 روپے سے -/999,999 روپے ہے)	لین دین کے اوقات *	
	صبح 9:00 تا شام 04:00	25/- روپے
		25/- روپے
		50/- روپے
		سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس لاگو ہوگا
* نوٹ: نظام الاوقات 5 کاروباری ایام یعنی پیر تا جمعہ تک ہیں۔ ایس بی پی کے رہنما اصول کے مطابق اوقات اور چارجز تبدیل ہو سکتے ہیں۔		
** اسٹیٹ بینک کی ہدایت، ڈیجیٹل پیمنٹ سروسز کے استعمال کے فروغ سے کورونا وائرس (COVID-19) کے پھیلاؤ کو محدود کرنے والے اقدامات کی روشنی میں آر ٹی جی ایس کسٹمر ٹرانسفرز (MT 102 & MT 103) پر عائد چارجز مزید ہدایات کے اجراء تک ختم کیے جا رہے ہیں۔		
۶۔ اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز	کم از کم بیلنس چارجز	200/- روپے فی لین دین (دیگر لاگو چارجز کے علاوہ)
		تمام اقسام کے ڈپازٹ اکاؤنٹ پر کوئی کم از کم چارجز لاگو نہیں ہیں۔ تاہم صارف کو درج ذیل جدول کے مطابق کم از کم بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔
اکاؤنٹ کی قسم	کم از کم درکار ماہانہ بیلنس	
کرنٹ	روپے	25,000/-
سیونگ	روپے	کوئی کم از کم بیلنس لاگو نہیں
دیگر	روپے	10,000/-
کرنٹ	بیرونی کرنسی	1,500/- امریکی ڈالر
سیونگ	بیرونی کرنسی	1,000/- امریکی ڈالر
دیگر	بیرونی کرنسی	1,000/- امریکی ڈالر



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

نوٹ: بینک اپنی صوابدید پر کم سے کم مطلوب بیلنس نہ رکھنے والوں کا اکاؤنٹ بند کر سکتا ہے۔

۸۔	چیکس جودا ہوئے بغیر واپس ہوئے:	
۱۔	وہ چیک جو کہ اکاؤنٹ میں ناکافی رقم کی وجہ سے ہمیں واپس کیا گیا	بہترین کاوش کی بنیاد پر رقم نکالنے والے اکاؤنٹ سے ہر چیک پر 500 روپے وصول کیے جائیں گے۔ (تمام معاملات میں یعنی کیش، کلیئرنگ، ٹرانسفر ڈیلیوری اور کیش ٹرانسفر)۔
	ب) باہر جانے والے کلیئرنگ چیکس جودا کیے بغیر واپس ہوئے	صفر
۹۔	چیکس کی اسٹاپ پیمنٹ	500/- روپے چیک
۱۰۔	حسابات کے گوشوارے کی نقل	35/- روپے بشمول سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس فی گوشوارہ (یعنی 4.80 + 30.20 روپے)
۱۱۔	معیاری تعداد کے علاوہ حسابات کے گوشوارے کا اجرا	35/- روپے بشمول سروسز پر لگنے والا FED / سیلز ٹیکس فی گوشوارہ
۱۲۔	اکاؤنٹ بیلنس / اکاؤنٹ ایکٹیویٹی سرٹیفکیٹس / بیلنس کنفرمیٹشنز / اینیگر انٹ کیلئے بینک سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی فیس / اور سیز ایمپلائمنٹ	300/- روپے فی سرٹیفکیٹ
۱۳۔	کریڈٹ رپورٹ کا اجرا	300/- روپے فی رپورٹ، اکاؤنٹ ہولڈر یا کرو سپونڈنٹ بینک سے قابل واپسی، جیسا لاگو ہو
۱۴۔	چیک بک کا اجرا اور تنسیخ	20/- روپے فی ورق مع گورنمنٹ کو واجب الادا محصولات، اگر ہوں
		اگر صارف 90 دنوں کے اندر متعلقہ برانچ سے چیک بک وصول نہیں کر پاتا تو چیک بک ضائع کر دی جائے گی اور درج بالا چارجز وصول کیے جائیں گے۔
۱۵۔	چیک بک کی ترسیل	100/- روپے فی بک مع ڈاک / کوریئر چارجز
۱۶۔	اکاؤنٹ کلوننگ چارجز	صفر
۱۷۔	کیش منجمنٹ کے تحت کیش کلیمیشن سروسز	انتظام کے مطابق یا - 1,000 کم از کم روپے فی کلیمیشن مع سیوریٹی انتظامات کی لاگت
۱۸۔	کارپوریٹ تنخواہ کی تقسیم	انتظام کے مطابق یا - 50 روپے فی ملازم کی تنخواہ کی ادائیگی مع ایک باریسٹ آپ فیس
۱۹۔	اُسی دن کلیئرنگ کے چارجز	250/- روپے فی چیک
۲۰۔	تھرڈ پارٹی ٹیسٹ وریفیکیشن چارجز	250/- روپے فی ٹیسٹ
۲۱۔	آن لائن بینکنگ کیش / کلیئرنگ ٹرانزیکشنز	مفت
۲۲۔	بینک مشینز پر ATM کا استعمال	مفت
۲۳۔	شیرڈ سوئیچ پر ATM کا استعمال	متعلقہ بینک کے عائد کردہ واجبات کے مطابق
۲۴۔	ہولڈمیل چارجز	1,000/- روپے فی ششماہی
۲۵۔	تجارت سے متعلق کریڈٹ رپورٹس کا حصول	اصل پر
۲۶۔	اولڈ ریکارڈ انفارمیشن چارجز	1 سال سے زیادہ - 300 روپے فی لین دین
۲۷۔	ڈیویڈنڈ وارنٹ پیمنٹ اور پروسیسنگ (شریعت سے ہم آہنگ)	0.03% پر کمیشن مع ڈاک / کوریئر چارجز کی اصل رقم، کاروبار کے حجم پر نرخ کی مذاکرات کی بنیاد پر لاگو ہوگا
۲۸۔	مینڈیٹ - بینکر کو جاری خدمات	انتظام کے مطابق
۲۹۔	کارپوریٹ کلیمیشن (ہاسٹلر، فیول اسٹیشنز وغیرہ)	انتظام کے مطابق

XII۔ ٹیلی کمیونیکیشن چارجز

۱۔	سوفٹ	
۱۔	درآمدی LCs:	مکمل متن: 1,500/- روپے



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

700/- روپے	مختصر متن:
700/- روپے	ترمیمات:
15/- امریکی ڈالر یا مساوی	بیرونی TTs:
500/- روپے	مقامی TTs:
700/- روپے	پ (دیگر):
2,500/- روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو	بین الاقوامی
100/- روپے	بیرون شہر
35/- روپے	اندرون شہر
	بین الاقوامی
اصل پر	برآمدی ڈاکومنٹس:
اصل پر	دیگر رجسٹرڈ:
اصل پر	دیگر آرڈنری:
	مقامی
50/- روپے	رجسٹرڈ:
25/- روپے	آرڈنری:
100/- روپے	مقامی:
200/- روپے	بیرونی:
	۴۔ فیکس (فی صفحہ)
تخمین شدہ اصل چارجز، جس کا انحصار کال کی طوالت پر ہے، کم از کم -200 روپے	۵۔ ٹیلی فونز:

XIII۔ لاکرز*

	صارف سے وصول کیا گیا کرایہ صرف 1 ماہ (وہ ماہ جس میں لاکر صارف کو جاری کیا گیا ہو) کا شمار ہوگا اور بینک اپنی خدمات میں مزید 11 ماہ تک کی مفت توسیع کرے گا۔
3,750/- روپے سالانہ	چھوٹا:
5,000/- روپے سالانہ	درمیانہ:
6,250/- روپے سالانہ	بڑا:
7,000/- روپے سالانہ	انتہائی بڑا:
4,000/- روپے	چھوٹا:
7,000/- روپے	درمیانہ:
10,000/- روپے	بڑا:
12,000/- روپے	انتہائی بڑا:
	ب (کی ڈپازٹ) پیشگی جمع ہو، اختتام پر واپس کیا جائے گا)
	زیورینٹل لاکر: درج ذیل کے مطابق کی ڈپازٹ برقرار رکھنے والے صارفین کیلئے عرصہ کرایہ داری کے دوران لاکرز کا کرایہ ختم کر دیا جائے گا۔ (اختتام پر قابل واپسی)
50,000/- روپے	چھوٹا:
80,000/- روپے	درمیانہ:
150,000/- روپے	بڑا:
200,000/- روپے	انتہائی بڑا:

پ (لیٹ فیس) (لاکر کا کرایہ)

چھوٹے کیلئے -150 روپے

درمیانے کیلئے -200 روپے

بڑے کیلئے -300 روپے

انتہائی بڑے کیلئے -500 روپے ہر ماہ ایک ماہ کی اضافی مدت کیلئے۔

بینک لیٹ فیس (لاکر کا کرایہ) بینک کی چیریٹی فنڈ پالیسی کے مطابق قائم کردہ چیریٹی فنڈ کیلئے وصول کرے گا



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

اصل مع 5,000/- روپے

ت) بریکنگ چارجز

لاکڑھولڈر کو ذیل میں تجویز کردہ حد تک ہر سائز کے لاکڑ کو مفت ٹکافل/انشورنس کورٹج فراہم کی جائے گی۔

ٹ) لاکڑ ٹکافل/انشورنس چارجز

چھوٹا: 500,000/- روپے
درمیانہ: 1,000,000/- روپے
بڑا: 1,500,000/- روپے
انتہائی بڑا: 2,000,000/- روپے

ٹکافل/انشورنس کورٹج

نوٹ: * لاکڑ فیسٹی صرف مقررہ برانچز پر ہی دستیاب ہے۔ رہنمائی کیلئے ازراہ کرم 021-1111-24365 پر رابطہ کریں۔

XIV - ویزا ڈیبٹ کارڈ چارجز

کلاسک/گولڈ چارجز	ویزا کلاسک	ویزا گولڈ	پلائئم
درکار ابتدائی ڈپازٹ	5,000/- روپے/پے پاک کے لیے مفت	500,000/- روپے	1,000,000/- روپے
سالانہ کارڈ فیس* (پرائمری کارڈ- یونین پے انٹرنیشنل کارڈ)- ای ایم وی	2,250/- روپے*	3,500/- روپے*	7,500/- روپے*
سالانہ کارڈ فیس (سپلیمنٹری کارڈ- یونین پے انٹرنیشنل کارڈ)- ای ایم وی	2,250/- روپے*	3,500/- روپے*	7,500/- روپے*
سالانہ کارڈ فیس* (پرائمری کارڈ- ماسٹر) ای ایم وی	2,750/- روپے*	3,500/- روپے*	-
سالانہ کارڈ فیس* (سپلیمنٹری کارڈ- ماسٹر) ای ایم وی	2,750/- روپے*	3,500/- روپے*	-
سالانہ کارڈ فیس* (پرائمری کارڈ- پے پاک) ای ایم وی	1,850/- روپے*	-	-
سالانہ کارڈ فیس* (سپلیمنٹری کارڈ- پے پاک) ای ایم وی	1,850/- روپے*	-	-

* کارڈ کے اجراء کی درخواست کے وقت چارجز ایڈوانس میں کاٹ لیے جائیں گے۔

** سالانہ کارڈ چارجز سالانہ بنیادوں پر پیچگی کاٹ لیے جائیں گے۔

*** کسٹمر کی جانب سے کسی بھی نئے کارڈ کے اجراء یا دوبارہ اجراء کی درخواست پر چارجز لاگو ہونگے۔

کارڈ کی تبدیلی- ای ایم وی (یونین پے انٹرنیشنل کارڈ اینڈ ماسٹر کارڈ)

• درجے کی بلندی	مفت	مفت	مفت
• گمشدہ یا چوری شدہ			
پرائمری کارڈ- یونین پے انٹرنیشنل کارڈ	2,250/- روپے*	3,500/- روپے*	7,500/- روپے*
سپلیمنٹری کارڈ- یونین پے انٹرنیشنل کارڈ	2,250/- روپے*	3,500/- روپے*	7,500/- روپے*
پرائمری کارڈ- ماسٹر	2,750/- روپے*	3,500/- روپے*	-
سپلیمنٹری کارڈ- ماسٹر	2,750/- روپے*	3,500/- روپے*	-
پرائمری کارڈ- پے پاک	1,850/- روپے*	-	-
سپلیمنٹری کارڈ- پے پاک	1,850/- روپے*	-	-

• میعاد ختم ہونے والا کارڈ

مقامی لین دین (ٹرانزیکشنز)

رقم نکلوانا (بینک مکرمہ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	مفت
رقم نکلوانا (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	35/- روپے
رسید کے ساتھ رقم نکلوانا (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	39/- روپے
رسید دوسرے ATM سے رقم نکلوانے پر (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	4/- روپے
رقم نکلوانا (وائیٹ لیبل ATM پر بینک مکرمہ صارف)	50/- روپے



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

بیلنس معلوم کرنا (بینک مکرمہ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	مفت
بیلنس معلوم کرنا بنارسید کے (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	4/- فی ٹرانزیکشن
بیلنس معلوم کرنا بنارسید کے ساتھ (1Link سوئچ ATM پر بینک مکرمہ صارف)	8/- فی ٹرانزیکشن
بیلنس معلوم کرنا (وائیٹ لیبل ATM پر بینک مکرمہ صارف)	5/- روپے یا اصل پر
ٹائٹل فچ چارجز نان بینکنگ اداروں کیلئے	5/- روپے
سوئچ ڈسپوٹ ریزولیشن (SDRS) چارجز	20/- روپے
نوٹ:	
• ATM/POS ڈسپوٹ، ری ڈسپوٹ اینڈ ڈیٹ اتھارٹی ٹرانزیکشنز وغیرہ کی صورت میں درست ڈسپوٹ کیلئے چارجز کا اطلاق کنندہ پر ہوگا	
• ATM/POS ڈسپوٹ، ری ڈسپوٹ ٹرانزیکشنز وغیرہ کی صورت میں ان ویلڈ ڈسپوٹ کیلئے چارجز کا اطلاق جاری کنندہ پر ہوگا	
• IBFT ڈسپوٹ، ری ڈسپوٹ اینڈ ڈیٹ اتھارٹی ٹرانزیکشنز وغیرہ کی صورت میں چارجز کا اطلاق پر ہوگا	
• FTDH تنازعہ کے اندراج پر تنازعہ چارجز لاگو ہوتے ہیں۔ غلطی پر بینکس پر چارجز لگائے جائیں گے اور روزانہ کلیئرنگ کے طریقہ کار کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔	
1-link کے مطابق، براہ کرم نوٹ کریں کہ اس وقت اے ٹی ایم / دیگر 1-link چارجز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان میں ترمیم ریگولیٹری منظوری کے بعد کی جاسکتی ہے۔	
بین الاقوامی لین دین (ٹرانزیکشنز)	
• نقد رقم نکالنا	4% یا کم از کم -400 روپے
• پی او ایس ٹرانزیکشنز	4% یا کم از کم -400 روپے
• بیلنس معلوم کرنا	تمام بین الاقوامی مقامات پر -200 روپے فی ٹرانزیکشن
* کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن (اے ٹی ایم مرچنٹس) جو کہ آپ کے بینک مکرمہ ڈیٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ہے ان کو غیر ملکی کرنسی میں حل کیا جائے گا جس پر مارکیٹ کرنسی کنورژن ریٹس کے اطلاق کے ساتھ ساتھ مروجہ شیڈول آف بینک چارجز بھی لاگو ہوں گے۔	
ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکل نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں۔	
گورنمنٹ سیکسز اور ڈیوٹیز کی آن لائن کلکیشن	ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکل نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
ٹرانزیکشن سلیب	
0-100,000	10/- روپے ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکل نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
100,001 - 1,000,000	20/- روپے ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکل نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
1,000,000/- سے زائد	50/- روپے ایس بی پی انسٹرکشن ایف ڈی سرکل نمبر 04، جاری کردہ 2019ء کے مطابق چارجز ختم کر دیے گئے ہیں
ٹرانزیکشنز کی واپسی / واپس چارج	
• مقامی ٹرانزیکشن	کلاسک 250/- روپے* گولڈ 250/- روپے*
• بین الاقوامی ٹرانزیکشن	500/- روپے* مع اصل یونین پے انٹرنیشنل کارڈ / ماسٹر
ٹائٹل پرواپس چارج	500/- امریکی ڈالر* 500/- امریکی ڈالر* یا بمطابق اصل یونین پے انٹرنیشنل کارڈ / ماسٹر چارجز
ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پر ایس ایم ایس الرٹ	مفت
Xvi - مکمل ایس ایم ایس الرٹ سیکسز پر - سالانہ چارجز	صرف لوکل نمبر پر
	2,220/- روپے + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ماہانہ -185 روپے + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سالانہ یا دیگر کرنسی کے مساوی



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

مفت	XVii- ای۔ بینکنگ (انٹرنیٹ بینکنگ)
مفت	کوئیک پی۔ بذریعہ ATM، ویب، موبائل ایپ
مفت	پی فاسٹ۔ ای کامرس ہیمنٹ
مفت	Daraz.pk
1Link کے تحت daraz.pk کیلئے ٹوکن دائیجی اور بذریعہ Net Connect (انٹرنیٹ بینکنگ) بھی ادائیگی کی سہولت مکرّمہ موبائل ایپ	
مفت	QR کوڈ ہیمنٹ
مفت (چارجز سے مستثنیٰ)	XViii- ATM، ویب، موبائل اور کوئیک سینٹر کے ذریعے موبائل ریچارج (ایئر۔ ٹائم پر چیز)
ماہانہ 25000 روپے فی اکاؤنٹ کی بھیجی جانے والی ایک کم سے کم مجموعی حد تک انفرادی کسٹمرز کے لیے فری آئی بی ایف ٹی سروسز، کسی بھی اکاؤنٹ سے 25000 روپے ماہانہ کی مجموعی حد سے تجاوز کرنے والی ٹرانزیکشنز کے لیے ٹرانزیکشن رقم کا 0.1 فیصد یا 200 روپے، ان میں سے جو بھی کم ہو کے برابر کسٹمر کو ایک ٹرانزیکشن فیس عائد کی جائے گی۔ ان چارجز میں تمام لاگوسروسز پر لگنے والا FED/سیلز ٹیکس شامل ہوں گے۔	ATM، ویب، موبائل اور کوئیک سینٹر کے ذریعے IBFT (انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر)
مفت	آئی بی ایف ٹی بذریعہ راست چینل سے راست چینل پر
1/- روپے	انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر (آئی بی ایف ٹی جیسے کہ بذریعہ ای ایم، انٹرنیٹ بینکنگ، بینک مکرّمہ موبائل (ایپ) اور یوفون یو ایس ایس ڈی) کیلئے
مفت	ٹائل فچ چارجز
	مہوم ریمنٹس ای ڈیوڈنٹ
مفت	ATM، ویب، موبائل اور کوئیک سینٹر کے ذریعے یوٹیلیٹی بیل کی ادائیگی (یوٹیلیٹی بیل ہیمنٹ)
مفت	ATM، ویب، موبائل اور کوئیک سینٹر کے ذریعے کارڈ بیل کی ادائیگی
مفت	1- بیل ہیمنٹ بذریعہ ATM، ویب، موبائل اور کوئیک سینٹر
چارجز کا خاتمہ *	
ڈاک، کوریئر، ٹیلیفون، ٹیلیکس اور فیکس چارجز ان اکاؤنٹ ہولڈرز سے جو بینک کے عمومی پُل میں کرنٹ، بچت سیونگ اکاؤنٹ اور/یا ڈی سیونگ اکاؤنٹ میں ماہانہ اوسط بیننس 0.25 ملین روپے یا اس کے مساوی برقرار رکھتے ہیں وصول نہیں کیے جائیں گے۔ استثنائی دریافت کے مقصد کیلئے گزشتہ ماہ کا اوسط بیننس استعمال کیا جائے گا؛ درج ذیل اقسام کی ٹرانزیکشنز پر ایسے صارفین سے کمیشن بھی نہیں لیا جائے گا۔	
۱۔	پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجرا اور تینج
۲۔	آؤٹ ورڈ ریمنٹسز۔ مقامی و بیرونی *
۳۔	ان ورڈ ریمنٹسز۔ مقامی و بیرونی
۴۔	مقامی اور بیرونی کرنسی چیکس کی وصولی
۵۔	اکاؤنٹس کے گوشوارے
۶۔	ریٹرنڈ چیکس (چیک ریٹرن چارجز اب لاگو ہیں)



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

۷۔ چیکس کی ادائیگی روکنا

۸۔ اسٹینڈنگ انسٹرکشن فیس

۹۔ بیلنس کنفرمیشن/سرٹیفکیٹ اسٹیمٹ کا اجرا

۱۰۔ بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک چیک بکس کی ترسیل

۱۱۔ نقد نکالوانے کی رسیدوں کا اجرا

۱۲۔ M فارم کی منظوری

۱۳۔ نقد رقم وصولی کی خدمات اگر وصولی 0.500 ملین روپے کے مساوی ہو اور/یا اس سے اوپر

۱۴۔ اسی دن کلیئرنگ کے چارجز

۱۵۔ چیک بک کے اجرا کے چارجز

۱۶۔ ہولڈ میل چارجز

(۱) بینک مکرمہ کا عملہ ان تمام چارجز سے مستثنیٰ ہے۔

(ب) درج ذیل طبقات اکاؤنٹ اوپننگ، مینٹیننس اور کلوزنگ چارجز کے اطلاق سے مستثنیٰ ہیں۔ مزید برآں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق درج ذیل اکاؤنٹ کھولنے کی غرض سے ابتدائی طور پر درکار ضروری بیلنس سے بھی مستثنیٰ ہیں۔

(i) طلبا

(ii) مستحقین زکوٰۃ

(iii) عمر رسیدہ شہری

(iv) سرکاری ملازمین/نیم سرکاری ادارے بغرض تنخواہ اور پنشن بشمول متوفی ملازمین کی بیوہ/بچے جو اہل ہوں فیملی پنشن/بینیولٹ فنڈ/گرانٹ وغیرہ

* تاہم زائد اخراجات وصول کیے جائیں گے۔

فنانس فیسلٹی حاصل کرنے والے صارفین کیلئے سروس چارجز، فیس اور کمیشنز مینجمنٹ کی ٹرمز آف دی فیسلٹی (فیسلٹیئر) کی منظوری پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ فیس/کمیشنز مینجمنٹ کی منظوری پر ان ٹرانزیکشنز کیلئے معاملہ بہ معاملہ کی بنیاد پر مکمل طور پر معاف کیے جاسکتے ہیں یا کم کیے جاسکتے ہیں۔

نوٹ:

(۱) تمام سرکاری ایکسائز ڈیوٹیز/ٹیکسز/زکوٰۃ وغیرہ کسٹمرز اکاؤنٹ کیلئے ہیں اور درج بالا چارجز کے علاوہ وہ منہا کیے جائیں گے۔

(ب) آؤٹ آف پاکٹ اخراجات تمام بینک خدمات کیلئے وصول کیے جائیں گے جن کا احاطہ شیڈول میں نہیں کیا گیا ہے۔

(پ) تمام زمروں میں چارجز پاکستانی روپوں یا بیرونی کرنسی میں وصول کیے جائیں گے۔

(ت) کوریئر چارجز اور ڈاک تمام خدمات پر جہاں بھی لاگو ہیں علیحدہ وصول کیے جائیں گے۔

(ث) کرو سپونڈنٹ بینک چارجز شیڈول کے مطابق ہمارے چارجز کے علاوہ اصل پر وصول کیے جائیں گے۔

(ث) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلقہ چارجز بینک اور متعلقہ صارف کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔

(ج) بینک انتظامیہ کسی یا تمام چارجز میں ترمیم یا تنسیخ کے حقوق محفوظ رکھتی ہے۔ تاہم ایسی ترمیم/تنسیخ کیلئے متعلقہ برنس ہیڈ اور ہم رتبہ کو بینک کے ”ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر“ (RSBM) سے منظوری لینا ہوگی۔

(ج) بینک انتظامیہ ان تمام خدمات جس میں غیر معمولی کام شامل ہوتا ہے پر اضافی چارجز وصول کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

(ح) کسی نئے پروڈکٹ (س) اور سروس (ز) اور چارجز کی صورت میں اسے آنے والے شیڈول آف چارجز (SOC) میں شامل کر لیا جائے گا۔

چیریٹی فنڈ پالیسی

بینک مختلف فنانسنگ پروڈکٹس اور سروسز پر بینک کی منظور کردہ چیریٹی فنڈ پالیسی کے مطابق فیسلٹی ایڈوائزنگ لیٹر آف دی بینک میں مجوزہ طریقہ کار اور شرح سے چیریٹی فنڈ پالیسی کے کسی قاعدے کی خلاف ورزی کیے بغیر چیریٹی (خیرات و صدقات) وصول کرے گا۔

قابل اطلاق چیریٹی شرح کسٹمر کیلئے فیسلٹی پرائنگ 2% زائد یا فیسلٹی ایڈوائزنگ لیٹر (FAL) ایگریمنٹ میں ظاہر کردہ ہے۔